



میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز

یکم جولائی تا 31 دسمبر، 2025 تک نافذ العمل

کاپی رائٹ 1447 ہجری، 2025 میزان بینک لمیٹڈ
تمام حقوق محفوظ ہیں۔



تبدیل شدہ / نئے چارجز کی تفصیل (جولائی تا دسمبر، 2025)

صفحہ	تبدیل شدہ / نئے چارجز	تفصیل	حصہ
۴	چارجز کی تبدیلی	L/C (xiv) کی تینج	A- تجارت درآمد۔ لیٹر آف کریڈٹ کے تحت بلز کی منظوری
		L/C (xxvi) میں ترمیم بذریعہ سوئفٹ	
		(xxvii) کوریسپانڈنس / پیمنٹس بذریعہ سوئفٹ چارجز	
		L/C (xxv) بذریعہ فل سوئفٹ	
۷	چارجز کی تبدیلی	(xvii) کوریسپانڈنس / سوئفٹ چارجز	A- تجارت برآمدات
۹	چارجز کی تبدیلی	(b) ایف ٹی ٹی	F- غیر ملکی ترسیلات زر
۱۲	چارجز کی تبدیلی	(i) میزان ویزا ڈیبٹ کارڈ	ADC -K
		(ii) میزان ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ	
		(vii) سلیمنٹری کارڈ چارجز	
		(xvii) دیگر بینکوں کے اے ٹی ایمز پر اے ٹی ایم رسید کی وصولی	
		(xviii) بین الاقوامی خریداری۔ ایف سی وائی ڈیبٹ کارڈ	
	نئے چارجز	ڈیبٹ کارڈ جاری کرنے کے معیار	
		(iv) ویزا انفنٹائیٹ ڈیبٹ کارڈ	
		(v) ماسٹر کارڈ ورلڈ ڈیبٹ کارڈ	
۱۴	چارجز کی تبدیلی	نوٹ: اگر صارف اب پریمیم صارف نہیں رہا تو کارڈ فیس عائد کی جائے گی۔	L- پریمیم بینکنگ
۱۸	نئے معیار	چارجز کے شیڈول میں ایک نئے سیکشن کا اضافہ	T- کارپوریٹ ریٹیننس
	چارجز کی تینج	مصنوعات کی معطلی	میرا پاکستان میرا گھر
۱۸	چارجز کی تبدیلی	(vi) سوئفٹ چارجز	U- صارف سے رابطے کے محصولات



فہرست

۲	A درآمد
۵	B این لینڈ لیٹر آف کریڈٹ
۶	C گارنٹیز (ضمانتیں)
۷	D درآمد
۸	E مالیات
۹	F غیر ملکی ترسیلات زر
۹	G غیر ملکی بلز
۱۰	H برانچ بینکنگ
۱۱	I مقامی ترسیلات زر
۱۱	J میزان کفالہ
۱۲	K ADC (متبادل ترسیلی ذرائع) سہولیات
۱۴	L میزان پریمئیم بینکنگ
۱۵	M میزان پلس اکاؤنٹ
۱۶	N میزان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ
۱۶	O اجارہ
۱۷	P ایزی ہوم۔ اسلاک ہاؤسنگ فنانس
۱۷	Q لیک ٹریول آسان
۱۷	R میزان کنزیومر ایز
۱۷	S میزان اپنی بانیگ
۱۸	T کارپوریٹ رقوم کی ترسیل
۱۸	U کمیونی کیشن ٹیرف (صارف سے رابطے کے محصولات)
۱۹	V کیپیٹل مارکیٹ
۱۹	W میزان اسمارٹ
۱۹	X دیگر زائد اخراجات
۱۹	Y نئی خدمات کا تعارف
۲۰	Z اہم نکات



نوٹ:

اس جدول میں ان تمام سروس چارجز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بینک مختلف ٹرانزیکشنز پر فراہم کردہ متعدد فعال/تعدیلی خدمات کی مد میں وصول کرے گا۔

بینک سے منسلک مشیر برائے شرعی امور کی ہدایات کی روشنی میں کسی بھی مالی ذمہ داری یا ضمانت کے محض اجراء کی مد میں کسی بھی قسم کی فیس/کمیشن کا حصول جائز نہیں۔ کیوں کہ یہ افعال عقود غیر معودہ یا غیر تعدیلی عمل سے وابستہ ہیں۔ بہر کیف اضافی لیکن متعلقہ خدمات فراہم کرنے کی صورت میں بینک کمیشن/فیس کے حصول میں حق بجانب تصور ہوگا۔



A (i)۔ امپورٹ لیٹر آف کریڈٹ

قرم پاکستانی روپے میں

رقم کی ابتدائی حد	رقم کی حد	ہر سہ ماہی یا اس کے کسی حصے پر	رواں سہ ماہی یا اس کے کچھ حصے کے لیے
Amount Upto			
500,000	2,500	1,250	
800,000	3,250	1,625	
1,000,000	4,500	2,250	
1,500,000	6,250	3,125	
2,000,000	8,750	4,375	
2,500,000	11,250	5,625	
3,000,000	13,750	6,875	
3,500,000	16,250	8,125	
4,000,000	18,750	9,375	
4,500,000	21,250	10,625	
5,000,000	23,750	11,875	
5,500,000	26,250	13,125	
6,000,000	28,750	14,375	
6,500,000	31,250	15,625	
7,000,000	33,750	16,875	
7,500,000	36,250	18,125	
8,000,000	38,750	19,375	
8,500,000	41,250	20,625	
9,000,000	43,750	21,875	
9,500,000	46,250	23,125	
10,000,000	48,750	24,375	
12,500,000	56,250	28,125	
15,000,000	68,750	34,375	
17,500,000	81,250	40,625	
20,000,000	93,750	46,875	
22,500,000	106,250	53,125	
25,000,000	118,750	59,375	
27,500,000	131,250	65,625	
30,000,000	143,750	71,875	
32,500,000	156,250	78,125	
35,000,000	168,750	84,375	
37,500,000	181,250	90,625	
40,000,000	193,750	96,875	
42,500,000	206,250	103,125	
45,000,000	218,750	109,375	
47,500,000	231,250	115,625	
50,000,000	243,750	121,875	
52,500,000	256,250	128,125	
55,000,000	268,750	134,375	
57,500,000	281,250	140,625	
60,000,000	293,750	146,875	
62,500,000	306,250	153,125	
65,000,000	318,750	159,375	
67,500,000	331,250	165,625	
70,000,000	343,750	171,875	
72,500,000	356,250	178,125	
75,000,000	368,750	184,375	
77,500,000	381,250	190,625	
80,000,000	393,750	196,875	
82,500,000	406,250	203,125	
85,000,000	418,750	209,375	
87,500,000	431,250	215,625	
90,000,000	443,750	221,875	
92,500,000	456,250	228,125	
95,000,000	468,750	234,375	
97,500,000	481,250	240,625	
100,000,000	493,750	246,875	

کم از کم چارجز:- 1,500 روپے

- میزان بینک لمیٹڈ کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کی طرف سے بینک کو L/C کھولنے سے متعلق دی گئی سہولیات پر فیس لینے کی اجازت حاصل ہے جیسے کہ قرض کی دستاویزات کی تیاری، قرض کی جانچ، مراسلت کھاتے کی دیکھ بھال اور جانچ وغیرہ۔
- 100 ملین روپے سے زائد کی تمام L/C رقوم پر فی 1 ملین روپے کے حساب سے (یا اس کا کچھ حصہ) -/5,000 روپے کے اضافی سروس چارجز (پہلی سہ ماہی کے لئے) ہوں گے اور -/2,500 روپے (مابعد سہ ماہی کے لئے) وصول کئے جائیں گے۔
- رقم میں اضافہ سے متعلق ترمیم L/C کے فعال رہنے کی مدت میں اضافہ کی صورت میں فی ترمیم -/1,200 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج) اور مذکورہ بالا چارجز قابل اطلاق ہوں گے۔
- متعلقہ صارف کو مذکورہ بالا سروس چارجز کی مد میں چھوٹ سے متعلق پیشکش بینک انتظامیہ کی منظوری سے مشروط ہے۔



A (ii)۔ لیٹر آف کریڈٹ (قرض کی سہولت کے خط) کے مطابق بلوں کی منظوری

قر پاکستانی روپے میں

ہر ماہ یا اس کے کسی حصے پر	منظور شدہ رقم کی حد	رقم کی ابتدائی حد
1,000	800,000	500,001
1,350	1,000,000	800,001
1,900	1,500,000	1,000,001
2,600	2,000,000	1,500,001
3,400	2,500,000	2,000,001
4,100	3,000,000	2,500,001
4,800	3,500,000	3,000,001
5,600	4,000,000	3,500,001
6,400	4,500,000	4,000,001
7,200	5,000,000	4,500,001
7,900	5,500,000	5,000,001
8,600	6,000,000	5,500,001
9,300	6,500,000	6,000,001
10,100	7,000,000	6,500,001
10,800	7,500,000	7,000,001
11,600	8,000,000	7,500,001
12,400	8,500,000	8,000,001
13,200	9,000,000	8,500,001
13,900	9,500,000	9,000,001
14,700	10,000,000	9,500,001
16,800	12,500,000	10,000,001
20,600	15,000,000	12,500,001
24,300	17,500,000	15,000,001
28,100	20,000,000	17,500,001
31,900	22,500,000	20,000,001
35,600	25,000,000	22,500,001
39,300	27,500,000	25,000,001
43,100	30,000,000	27,500,001
46,800	32,500,000	30,000,001
50,500	35,000,000	32,500,001
54,300	37,500,000	35,000,001
58,000	40,000,000	37,500,001
61,700	42,500,000	40,000,001
65,500	45,000,000	42,500,001
69,200	47,500,000	45,000,001
73,000	50,000,000	47,500,001
76,800	52,500,000	50,000,001
80,600	55,000,000	52,500,001
84,400	57,500,000	55,000,001
88,200	60,000,000	57,500,001
92,000	62,500,000	60,000,001
95,800	65,000,000	62,500,001
99,400	67,500,000	65,000,001
103,100	70,000,000	67,500,001
106,800	72,500,000	70,000,001
110,600	75,000,000	72,500,001
114,300	77,500,000	75,000,001
118,000	80,000,000	77,500,001
121,800	82,500,000	80,000,001
125,600	85,000,000	82,500,001
129,400	87,500,000	85,000,001
133,100	90,000,000	87,500,001
136,900	92,500,000	90,000,001
140,600	95,000,000	92,500,001
144,300	97,500,000	95,000,001
148,100	100,000,000	97,500,001

کم از کم -/1,000 روپے

- اوپر جن چارجز کی نشاندہی کی گئی ہے ان کا تعلق ان سہولیات سے ہے جو کہ بلوں کی منظوری کے وقت مہیا کی گئیں جیسے کہ نگرانی، دستاویزات کا جائزہ/ جانچ وغیرہ۔
- 100 ملین روپے سے زائد تمام قابل قبول رقم پر -/1,500 روپے (ماہانہ) فی 1 ملین روپے (یا اس کا کچھ حصہ) کے حساب سے اضافی چارج وصول کئے جائیں گے۔
- مذکورہ بالا سروس چارجز پر صارفین کو پیش کئے جانے والے ڈسکاؤنٹس بینک انتظامیہ کی منظوری سے مشروط ہیں۔

نوٹ: اگر بل کی واجب الادائیگی L/C کے فعال ہونے کے دوران واقع ہو تو کوئی منظوری (Acceptance) چارج نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر بل اس وقت واجب الادا ہو جب L/C کی میعاد ختم ہو چکی ہو تو مذکورہ بالا سروس چارجز L/C کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے بل کی ادائیگی کی اصل تاریخ تک واجب الادا ہوں گے۔



(iii) جہاز کے بل کی تصدیق / شپنگ گارنٹی (ضمانت) کا اجراء	1,800/- روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)
(iv) بل کی ریٹائرمنٹ (پرونی / مقامی)	0.15 فیصد، کم از کم -/1,500 روپے
(v) درآمدات کے لئے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر / معاہدہ کارجسٹریشن	0.15 فیصد، کم از کم -/2,000 روپے
(vi) معاہدے کی رجسٹریشن میں ترمیم	1,200/- روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)
(vii) کنسائنمنٹ (معاہدے) کی بنیاد پر درآمدات کی قبولیت	0.15 فیصد، کم از کم -/500 روپے
(viii) درآمدی L/C کے تحت پہلے سے کسی انتظام کے بغیر اشیاء کی کلیئرنگ	درآمدی اشیاء کی لاگت کے C&F 0.25 فیصد کم از کم -/750 روپے
(ix) غیر ملکی فراہم کنندگان / خریدار پر کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ بشمول کریڈٹ رپورٹ	اصل خرچہ
(x) ادائیگی کے بغیر درآمد سے متعلق واپس کی گئی دستاویزات	فارورڈنگ بینک سے -/100 امریکی ڈالر
(xi) کارسپونڈنٹ (مراسلاتی بینک) کوری امبرسنگ چارجز کی ادائیگی	اصل خرچہ
(xii) بغیر L/C کھولے / معاہدے کی رجسٹریشن کے بغیر، درآمد کی مد میں ترسیلات زر	0.15 فیصد، کم از کم -/1,500 روپے بمعہ SWIFT/FDD چارجز
(xiii) L/C کی ازسر نو توثیق	اوپر بیان کردہ A(ii) کے مطابق
(xiv) L/C کی تینینج	-/2,000 روپے بمعہ -/850 روپے SWIFT چارجز
(xv) اسپاٹ L/C مرابحہ کے تحت ہونے والا منافع	-/100 روپے (کم از کم)
(xvi) PAD مرابحہ / مساومہ پر منافع	منظور شدہ قرض کی رقم کے حساب سے
(xvii) ڈیوٹی ڈرایبک (DLTL) / نقل و حمل پر سبسڈی / دیگر کوئی درآمدی سبسڈی کا دعویٰ	0.25 فیصد، کم از کم -/1,000 روپے
(xviii) اعتراض شدہ دستاویز پیش کرنے پر اگر نیکو شہیننگ (معاملات طے کرانے والا) بینک سے 65 امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی) وصول کیے جائیں گے۔ ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ کی صورت میں	-/1,000 روپے
(xix) LC کے تحت درآمدی میعاد بل کی پینڈنگ	-/1,000 روپے مقررہ (ہر رقم پر ایک سا چارج)
(xx) درآمدی کھاتے کی ادائیگیاں / درآمدی وصولی دستاویزات چاہے وہ معاہدے کے تحت ہوں یا نہیں / درآمدی پیشگی ادائیگیاں	-/1,500 روپے
(xxi) فنانشل انسٹرومنٹ پینڈنگ چارجز	-/100 روپے فی درخواست
(xxii) بینک سے بینک میں EIF ٹرانسفر	-/500 روپے فی درخواست
(xxiii) FOB پر درآمدات کے لئے فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء	-/1,000 روپے
(xxiv) FOC (فری آف کاسٹ) F.I	-/1,200 روپے فی FOC
(xxv) L/C بذریعہ فل سوئفٹ	-/2,000 روپے
(xxvi) L/C میں ترمیم بذریعہ فل سوئفٹ	-/850 روپے
(xxvii) کوریسپانڈنس / ہیمنٹس بذریعہ سوئفٹ چارجز	-/850 روپے



میزان بینک
پہریمینٹر اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

B- ان لینڈ لیٹ آف کریڈٹ

رقم پاکستانی روپے میں

رقم کی ابتدائی حد	رقم کی حد	رقم کی انتہائی حد	ہر سہ ماہی یا اس کے کسی حصے پر	رواں سہ ماہی یا اس کے کچھ حصے کے لیے
200,001	500,000	3,150	1,575	
500,001	800,000	5,850	2,925	
800,001	1,000,000	8,100	4,050	
1,000,001	1,500,000	11,250	5,625	
1,500,001	2,000,000	15,750	7,875	
2,000,001	2,500,000	20,250	10,125	
2,500,001	3,000,000	24,750	12,375	
3,000,001	3,500,000	29,250	14,625	
3,500,001	4,000,000	33,750	16,875	
4,000,001	4,500,000	38,250	19,125	
4,500,001	5,000,000	42,750	21,375	
5,000,001	5,500,000	47,250	23,625	
5,500,001	6,000,000	51,750	25,875	
6,000,001	6,500,000	56,250	28,125	
6,500,001	7,000,000	60,750	30,375	
7,000,001	7,500,000	65,250	32,625	
7,500,001	8,000,000	69,750	34,875	
8,000,001	8,500,000	74,250	37,125	
8,500,001	9,000,000	78,750	39,375	
9,000,001	9,500,000	83,250	41,625	
9,500,001	10,000,000	87,750	43,875	
10,000,001	12,500,000	101,250	50,625	
12,500,001	15,000,000	123,750	61,875	
15,000,001	17,500,000	146,250	73,125	
17,500,001	20,000,000	168,750	84,375	
20,000,001	22,500,000	191,250	95,625	
22,500,001	25,000,000	213,750	106,875	
25,000,001	27,500,000	236,250	118,125	
27,500,001	30,000,000	258,750	129,375	
30,000,001	32,500,000	281,250	140,625	
32,500,001	35,000,000	303,750	151,875	
35,000,001	37,500,000	326,250	163,125	
37,500,001	40,000,000	348,750	174,375	
40,000,001	42,500,000	371,250	185,625	
42,500,001	45,000,000	393,750	196,875	
45,000,001	47,500,000	416,250	208,125	
47,500,001	50,000,000	438,750	219,375	
50,000,001	52,500,000	461,250	230,625	
52,500,001	55,000,000	483,750	241,875	
55,000,001	57,500,000	506,250	253,125	
57,500,001	60,000,000	528,750	264,375	
60,000,001	62,500,000	551,250	275,625	
62,500,001	65,000,000	573,750	286,875	
65,000,001	67,500,000	596,250	298,125	
67,500,001	70,000,000	618,750	309,375	
70,000,001	72,500,000	641,250	320,625	
72,500,001	75,000,000	663,750	331,875	
75,000,001	77,500,000	686,250	343,125	
77,500,001	80,000,000	708,750	354,375	
80,000,001	82,500,000	731,250	365,625	
82,500,001	85,000,000	753,750	376,875	
85,000,001	87,500,000	776,250	388,125	
87,500,001	90,000,000	798,750	399,375	
90,000,001	92,500,000	821,250	410,625	
92,500,001	95,000,000	843,750	421,875	
95,000,001	97,500,000	866,250	433,125	
97,500,001	100,000,000	888,750	444,375	

کم از کم چارجز- 1,500 روپے

- میزان بینک لمیٹڈ کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کی طرف سے بینک کو L/C کھولنے سے متعلق دی گئی سہولیات پرفیس لینے کی اجازت حاصل ہے جیسے کہ قرض کی دستاویزات کی تیاری، قرض کی جانچ، مراسلت کھاتے کی دیکھ بھال اور جانچ وغیرہ۔
- تمام L/C رقم جو کہ 100 ملین روپے سے تجاوز کر جائیں گی، ان پر- 9,000 روپے (پہلی سہ ماہی میں) ہر ملین پر (یا اس کے کچھ حصے کے لیے) اور- 4,500 روپے (مابعد سہ ماہی کے لیے) اضافی وصول کئے جائیں گے۔
- رقم میں اضافہ سے متعلق ترمیم یا L/C کے فعال رہنے کی مدت میں اضافہ کی صورت میں فی ترمیم- 1,200 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج) اور مذکورہ بالا چارجز قابل اطلاق ہوں گے۔
- متعلقہ صارف کو مذکورہ بالا سروس چارجز کی مد میں چھوٹ سے متعلق پیشکش بینک انتظامیہ کی منظوری سے مشروط ہے۔



C- گارنٹیز (ضمانتیں)

رقم پاکستانی روپے میں

رقم کی ابتدائی حد	رقم کی اختتامی حد	ہر سہ ماہی یا اس کے کسی حصے پر	رواں سہ ماہی یا اس کے کچھ حصے کے لیے
Amount upto	500,000	4,000	2,000
500,001	800,000	5,200	2,600
800,001	1,000,000	7,200	3,600
1,000,001	1,500,000	10,000	5,000
1,500,001	2,000,000	14,000	7,000
2,000,001	2,500,000	18,000	9,000
2,500,001	3,000,000	22,000	11,000
3,000,001	3,500,000	26,000	13,000
3,500,001	4,000,000	30,000	15,000
4,000,001	4,500,000	34,000	17,000
4,500,001	5,000,000	38,000	19,000
5,000,001	5,500,000	42,000	21,000
5,500,001	6,000,000	46,000	23,000
6,000,001	6,500,000	50,000	25,000
6,500,001	7,000,000	54,000	27,000
7,000,001	7,500,000	58,000	29,000
7,500,001	8,000,000	62,000	31,000
8,000,001	8,500,000	66,000	33,000
8,500,001	9,000,000	70,000	35,000
9,000,001	9,500,000	74,000	37,000
9,500,001	10,000,000	78,000	39,000
10,000,001	12,500,000	90,000	45,000
12,500,001	15,000,000	110,000	55,000
15,000,001	17,500,000	130,000	65,000
17,500,001	20,000,000	150,000	75,000
20,000,001	22,500,000	170,000	85,000
22,500,001	25,000,000	190,000	95,000
25,000,001	27,500,000	210,000	105,000
27,500,001	30,000,000	230,000	115,000
30,000,001	32,500,000	250,000	125,000
32,500,001	35,000,000	270,000	135,000
35,000,001	37,500,000	290,000	145,000
37,500,001	40,000,000	310,000	155,000
40,000,001	42,500,000	330,000	165,000
42,500,001	45,000,000	350,000	175,000
45,000,001	47,500,000	370,000	185,000
47,500,001	50,000,000	390,000	195,000
50,000,001	52,500,000	410,000	205,000
52,500,001	55,000,000	430,000	215,000
55,000,001	57,500,000	450,000	225,000
57,500,001	60,000,000	470,000	235,000
60,000,001	62,500,000	490,000	245,000
62,500,001	65,000,000	510,000	255,000
65,000,001	67,500,000	530,000	265,000
67,500,001	70,000,000	550,000	275,000
70,000,001	72,500,000	570,000	285,000
72,500,001	75,000,000	590,000	295,000
75,000,001	77,500,000	610,000	305,000
77,500,001	80,000,000	630,000	315,000
80,000,001	82,500,000	650,000	325,000
82,500,001	85,000,000	670,000	335,000
85,000,001	87,500,000	690,000	345,000
87,500,001	90,000,000	710,000	355,000
90,000,001	92,500,000	730,000	365,000
92,500,001	95,000,000	750,000	375,000
95,000,001	97,500,000	770,000	385,000
97,500,001	100,000,000	790,000	395,000

ضمانت کے اجراء / اتریم کے کم از کم سروس چارجز- 2,000 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پرایک سا چارج) ہیں۔

■ میزان بینک لمیٹڈ کے شریعہ ایڈوائزر کی بورڈ کی طرف سے بینک کو L/C کھولنے سے متعلق دی گئی سہولیات پر فیس لینے کی اجازت حاصل ہے جیسے کہ قرض کی دستاویزات کی تیاری، قرض کی جانچ، مراسلت کھاتے کی دیکھ بھال اور جانچ وغیرہ۔

■ 100 ملین روپے سے تجاوز کر جانے والی تمام گارنٹیز (ضمانتوں) پر- 8,000 روپے ہر ایک ملین پر (ہر سہ ماہی یا اس کے کچھ حصے کے لئے) اور- 4,000 روپے (با بعد سہ ماہیوں کے لئے) چارجز وصول کئے جائیں گے۔

■ رقم میں اضافہ سے متعلق ترمیم یا گارنٹی (ضمانت) کے فعال رہنے کی مدت میں اضافہ کی صورت میں فی ترمیم- 1,000 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پرایک سا چارج) اور مذکورہ بالا چارج قابل اطلاق ہوں گے۔

■ شپنگ کمپنیوں کو جاری کردہ گارنٹی کے لئے- 1,000 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پرایک سا چارج) چارجز وصول کئے جائیں گے۔

■ بینک کی جانب سے (نمائندہ، ملکی، غیر ملکی) بینکوں کو جاری کی گئی جوابی گارنٹیز (ضمانتیں) کے چارجز بینک کی ذاتی صوابدید پر کیس کی نوعیت اور مذکورہ بالا حدود کی بنیاد پر طے ہوں گے۔

■ دعوے کی کارروائی کی مدت میں چارجز- 2,500 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پرایک سا چارج)

■ متعلقہ صارف کو مذکورہ بالا سروس چارجز کی مدت میں چھوٹ سے متعلق پیشکش بینک انتظامیہ کی منظوری سے مشروط ہے۔



D- برآمد

- (i) لیٹر آف کریڈٹ
(a) ایڈوانسنگ
(b) ترمیم
(c) تصدیق، ایڈوانسنگ اور متفرق چارجز
- (d) برآمدات کی L/Cs کا تبادلہ
(ii) اگر محدود لیٹر آف کریڈٹ کی دستاویز کسی دوسرے مقامی بینک کا تبادلہ خیال کے لیے بھیجا جائے
(iii) ڈیوٹی ڈرائیگ/نقل و حمل پر سبسڈی/دیگر کوئی برآمدی سبسڈی کا دعویٰ
(iv) کلکیشنز
(a) کلین
(b) دستاویز مقامی
- (v) برآمدی دستاویزات کی ہینڈلنگ اور پروسیجرز نیٹلانڈزیشن کے سروس چارجز (چاہے کسی دیگر مقامی بینک میں منتقل کئے گئے ہوں یا نہیں)
(vi) IERF/ILTFF/IFRE درخواست کی ہینڈلنگ
- (vii) برآمدات کی کارکردگی کی تصدیق
(viii) دیگر بینکوں کو ای ای کے این اوسی کا اجراء
(ix) IERS PART-1 کے تحت متبادل کیسز کی جانچ پڑتال
(x) دیگر بینکوں کو فنانشل انسٹرومنٹ کی منتقلی
(xi) ایکسپورٹ ڈولپمنٹ سرچارج (EDS) کی وصولی کے ہینڈلنگ چارجز
(xii) برآمدات کی مد میں پیٹنگی ادائیگی
(xiii) زائد المیعا برآمدی بل کے لئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دستاویزات کی فراہمی اور رپورٹنگ کے سروس چارجز
(xiv) دیگر بینکوں کو کارروائی کی منتقلی اور دستاویزات کی آگے منتقلی
(xv) ایکسپورٹ ایڈوائس سسٹم کے لئے SBP کو دستاویزات جمع کروانے کے ہینڈلنگ چارجز
(xvi) فنانشل انسٹرومنٹ (F.I) کی منتقلی
(xvii) کوریسپانڈنس/سولفٹ چارجز
(xviii) بین الاقوامی کوریئر
- 1,500/- روپے مقررہ برائے صارفین -/2,500 روپے برائے غیر صارفین
1,200/- روپے برائے صارفین -/1,500 روپے برائے غیر صارفین
زیادہ سے زیادہ چارجز، معاملات کی نوعیت کی بنیاد پر
کم از کم چارجز -/250 روپے فی سہ ماہی
1,500/- روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)
1,000/- روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)
0.25 فیصد کم از کم -/1,000 روپے مقررہ
- 100/- روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)
0.25 فیصد کم از کم -/1,000 روپے
- 20 پیسہ فی -/100 روپے (-/2 روپے فی میل)
کم از کم -/2,000 روپے
(سافٹ ویئر برآمدات کی مد میں حاصل شدہ پروسیجرز کے علاوہ)
IERF درخواست کے لئے -/600 روپے
ILTFF درخواست کے لئے -/2,000 روپے
IFRE درخواست کے لئے -/2,000 روپے
ہر ای ای فارم پر -/1,000 روپے
1,000/- روپے فی کیس
500/- روپے فی کیس
500/- روپے
- 100/- روپے (درآمدی اشیاء کی وصولیابی کے وقت لئے جائیں گے)
20 پیسہ فی -/100 روپے (2 روپے فی میل) کم از کم -/2,000 روپے
تمام زائد المیعا دبلوں پر -/1,000 روپے فی برآمدی بل
(مذکورہ چارجز استحصناع/تجارہ کی صورت میں قابل اطلاق نہیں ہوں گے)
- 1,200/- روپے (مذکورہ چارجز استحصناع/تجارہ کی صورت میں قابل اطلاق نہیں ہوں گے)
500/- روپے (مذکورہ چارجز استحصناع/اجارہ کی صورت میں لاگو نہیں ہوں گے)
- 100/- روپے فی فنانشل انسٹرومنٹ
850/- روپے
بمطابق اصل خرچہ، کم از کم -/7000 روپے فی 500 گرام



E- مالیات

سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہونے والے منافع/آمدنی پر مندرجہ ذیل اضافی چارجز وصول کیے جائیں گے۔

(i) انتظام اور سروس کی فیس، مارکیٹنگ فیس وغیرہ۔

متفقہ شرائط کے تحت
اصل خرچہ

(ii) قانونی معاہدہ، قدر جانچنے کے چارجز، سرچ رپورٹ چارجز

اور لیگل چارجز سے متعلق اسٹیٹ ڈیوٹی

(iii) رہن پر ترسیل کے حکم (ڈیلیوری آرڈر) کا اجرا

600/- روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج) فی ترسیل

آرڈر (ریجنل منیجر کی صوابدید پر 50% تک کی چھوٹ)

اصل خرچہ

(iv) گودام کا کرایہ اور Mucaddum چارجز

(v) اسٹاک کی جانچ پڑتال کے چارجز جو بینک کی ملکیت نہ ہوں

بینک کے افسر کی جانب سے کی گئی جانچ پڑتال:

اندرون شہر:

1,200/- روپے برائے SME / کمرشل صارفین

2,400/- روپے برائے کارپوریٹ صارفین

اصل خرچہ

اصل خرچہ

اصل خرچہ

صارف اور بینک کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق

2,500/- روپے مقررہ فی جائیداد مع دیگر وینڈر فیس

بیرون شہر:

بیرونی وینڈر کی جانب سے کی گئی جانچ پڑتال:

(vi) دیگر اتفاقی اخراجات جیسے انشورنس پیمین / کنفل کنٹری بیوشن وغیرہ

(vii) اجارہ اثاثوں کی قبل از وقت فروخت (Termination)

(viii) جائیداد کا انفکاک

(فريق سے فیس اس وقت وصول کی جائے گی جب بینک کے افسران کو

انفکاک کے لئے رجسٹرار کے روبرو طلب کیا جائے گا۔)

(ix) پرائیویٹ اور پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کے لئے SECP سے رجسٹریشن

اور وکیل کے چارجز جب موجودہ / پائیدار اثاثوں پر چارج رجسٹرڈ ہو

(x) رجسٹرار کے دفتر میں چارج کی رجسٹریشن برائے شراکت داری / پروپرائٹرشپ فرمز /

انفرادی فنانسز برائے رہن

(xi) دیگر اداروں کی جانب سے جاری کردہ ضمانتوں پر قانونی دعویٰ

(xii) آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق

(xiii) زرعی فنانس:

فریش فیسلٹی اور قلیل مدتی فیسلٹی کی تجدید پر پروسیڈنگ چارجز*

ترقیاتی فنانس

3,000/- روپے مقررہ (فی ٹریکٹر)

نان فارم اور غیر ترقیاتی فنانس

5,000/- روپے (مقررہ)

پروسیڈنگ فیس*: - 6,000/- روپے

دیگر اخراجات (دستاویزات کی تیاری، جانچ جہاں قابل اطلاق ہوں) اصل خرچہ

پروسیڈنگ فیس*: - 3,500/- روپے

دیگر اخراجات (دستاویزات کی تیاری، جانچ جہاں قابل اطلاق ہوں) اصل خرچہ

(xiv) پروگرام بیسڈ فنانسنگ کے تحت کاروباری جائیداد کے لئے فنانس

(xv) پروگرام بیسڈ فنانسنگ کے تحت کمرشل اجارہ (آلات/مشینری/گاڑیاں)



میزان بینک
بینک اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

(xvi) پروسیسنگ، اسٹرکچرنگ اور ایڈوائزری فیس *۔ تجدید کی صورت میں یہ شارٹ ٹرم فیسلسٹی پر لاگو ہوگی

برائے SME / کمرشل صارفین

فیس (اصل خرچہ پاکستانی روپے میں)	فیس (اصل خرچہ پاکستانی روپے میں)
5,000	10
10,000	20
20,000	40
25,000	50
50,000	100
75,000	150
150,000	300
200,000	400
250,000	400 سے زائد

برائے کارپوریٹ صارفین

فیس (اصل خرچہ پاکستانی روپے میں)	فیس (اصل خرچہ پاکستانی روپے میں)
20,000	40
40,000	80
100,000	200
150,000	300
250,000	500
500,000	1,000
1,000,000	3,000
1,500,000	5,000
2,000,000	10,000
2,500,000	10,000 سے زائد

* پروسیسنگ فیس ہر صارف پریکس کی منظوری یا نا منظوری، دونوں صورتوں میں پیشگی لاگو ہوگی۔

F- غیر ملکی ترسیلات زر

(i) بیرونی (آؤٹ ورڈ)

(a) ایف ڈی ڈی

(b) ایف ٹی ڈی

15 امریکی ڈالر یا مساوی بشمول SWIFT چارجز

35 امریکی ڈالر یا مساوی بشمول SWIFT چارجز

FCY کیش ڈپازٹ کے 15 یوم کے اندر FTT / FDD / تبدیلی / منتقلی / اندرونی

کلیرنگ کے ذریعے رقم نکالے جانے پر 0.50 فیصد اضافی چارجز لاگو ہوں گے۔

10/- امریکی ڈالر مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)

35/- امریکی ڈالر اضافی لاگو ہوں گے اگر صارف انٹرمیڈیٹری چارجز ادا کرنا چاہے۔

اصل خرچہ

10/- امریکی ڈالر یا مساوی بشمول SWIFT چارجز

10/- امریکی ڈالر یا مساوی بشمول SWIFT چارجز

(c) فارن ٹیلی کرافٹ ٹرانسفر (FTT) برائے ج / عمرہ آپریٹرز

صرف ٹریڈرانزیکشنز کے لئے:

(ii) اندرونی ترسیلات زر پر متعلقہ بینک چارجز

(iii) FDD کی منسوخی کے چارجز

(iv) ایف ڈی ڈی کے اسٹاپ پیمنٹ چارجز

G- غیر ملکی بلز

(i) وصولی کے لئے آؤٹ ورڈ بلز

(*) برآمدات کی ادائیگی سے متعلق نہیں ہے / وغیرہ

(ii) FOB ریٹرن

(کسی بھی جواز سے قطع نظر)

(iii) وصولی کے لئے بھیجی گئی FOB سے متعلق انکوائری /

خط و کتابت

(iv) وصولی کے لئے ان ورڈ بلز

(v) کوریسپونڈنس (مراسلاتی) چارجز، اگر کوئی ہوں تو

0.5 فیصد کم از کم - 300 روپے، زیادہ سے زیادہ - 1500 روپے

مع کو ریٹ اور SWIFT چارجز، اگر لاگو ہوں۔

بمطابق اصل خرچہ

500/- روپے بطور SWIFT چارجز

10/- امریکی ڈالر بشمول SWIFT چارجز

اصل خرچہ

نوٹ:

* ہماری برانچ کے علاوہ دوسرا بینک ہونے کی صورت میں کلکیشن ایجنٹ کے اضافی چارجز لاگو ہوں گے۔

* اگر دستاویز کی تصدیق بذریعہ SWIFT / ٹیلی گرام یا فون استعمال کرتے ہوئے کی جائے گی تو دیگر کوئی بھی اخراجات اضافی وصول کیے جائیں گے۔



H- برانچ بینکنگ

- (i) آؤٹ ورڈ بلز فار کلیشن (OBC) جمع کروانے پر
(ii) ان ورڈ بلز فار کلیشن (IBC)
(iii) ان ورڈ کلیئرنگ / فنڈز کی منتقلی / کیش کاؤنٹر ٹرانزیکشن کے
کے دوران نا کافی فنڈز کی بناء پر چیک ریٹرن میمو کا اجراء
(iv) زیر عمل ہدایت کی فیس
(v) رقم کے حصول اور کٹوتیوں کی ایڈوائسز کی نقول، لیٹر آف کریڈٹ،
SWIFT وغیرہ کی اضافی کاپیاں فراہم کرنا
(vi) کارکردگی سرٹیفکیٹ کا اجراء اسٹیٹمنٹ کی تصدیق
علاوہ ازیں EF&EE فارم
(vii) آڈیٹرز کو پینس کی تصدیق
(viii) کھاتہ کی بندش
(ix) بینک کے ساتھ کاروباری امور سے متعلق
کسی بھی سرٹیفکیٹ کا اجراء
(x) پروسیڈر نیلارزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کا اجراء
(ہوم ریمنٹنس صارفین کے لئے مفت)
(xi) طالب علموں کے کیسز کی رجسٹریشن / اجازت

- (i) آؤٹ ورڈ بلز فار کلیشن (OBC) جمع کروانے پر
(ii) ان ورڈ بلز فار کلیشن (IBC)
(iii) ان ورڈ کلیئرنگ / فنڈز کی منتقلی / کیش کاؤنٹر ٹرانزیکشن کے
کے دوران نا کافی فنڈز کی بناء پر چیک ریٹرن میمو کا اجراء
(iv) زیر عمل ہدایت کی فیس
(v) رقم کے حصول اور کٹوتیوں کی ایڈوائسز کی نقول، لیٹر آف کریڈٹ،
SWIFT وغیرہ کی اضافی کاپیاں فراہم کرنا
(vi) کارکردگی سرٹیفکیٹ کا اجراء اسٹیٹمنٹ کی تصدیق
علاوہ ازیں EF&EE فارم
(vii) آڈیٹرز کو پینس کی تصدیق
(viii) کھاتہ کی بندش
(ix) بینک کے ساتھ کاروباری امور سے متعلق
کسی بھی سرٹیفکیٹ کا اجراء
(x) پروسیڈر نیلارزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کا اجراء
(ہوم ریمنٹنس صارفین کے لئے مفت)
(xi) طالب علموں کے کیسز کی رجسٹریشن / اجازت

میزان پلس	پرمیئم	نان پرمیئم	اکاؤنٹ کی قسم
قابل اطلاق نہیں	مفت	مفت	کرنٹ اکاؤنٹ
مفت	مفت	20 روپے فی پرت	سیونگ اکاؤنٹ / معاوضہ کرنٹ اکاؤنٹ
میزان پلس	پرمیئم	نان پرمیئم	اکاؤنٹ کی قسم
قابل اطلاق نہیں	7 روپے فی پرت	7 روپے فی پرت	کرنٹ اکاؤنٹ
7 روپے فی پرت	7 روپے فی پرت	مفت	سیونگ اکاؤنٹ / معاوضہ کرنٹ اکاؤنٹ

- مفت
500/- روپے (یعنی ہر رقم پرایک سا چارج) فی انسٹرومنٹ
300/- روپے (یعنی ہر رقم پرایک سا چارج) فی انسٹرومنٹ
25/- روپے فی آئٹم
ایک چیک پر - 300 روپے
ایک سے زائد چیکس پر - 600 روپے

- (xii) چیک بک کا اجراء
(xiii) چیک بک کی حفاظت اور تلف کرنے کے چارجز
(اگر صارف نے چیک بک اجراء کے 60 دن بعد تک وصول نہ کی ہو)

- (xiv) آؤٹ ورڈ کلیئرنگ لو جمنٹ چارجز:

امریکی ڈالر کی کلیئرنگ

ایک ہی دن میں کلیئرنگ

انٹرنیٹ کلیئرنگ

- (xv) ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ

- (xvi) چیک اسٹاپ پیمنٹ



میزان بینک
پیریمینٹر اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

(xvii) لاکرز:

-/5.000 روپے ایک مرتبہ
-/5.000 روپے سالانہ
-/6.000 روپے سالانہ
-/7.500 روپے سالانہ
اصل خرچہ

ابتدائی جمع کردہ رقم۔ قابل واپسی
چھوٹے لاکر کا کرایہ
درمیانے لاکر کا کرایہ
بڑے لاکر کا کرایہ
لاکروں کے چارجز

(xviii) گزشتہ ریکارڈ کا حصول:

-/200 روپے فی چیک / واؤچر
-/300 روپے فی چیک / واؤچر
-/500 روپے فی چیک / واؤچر

ایک سال پرانا ریکارڈ
ایک سال سے زیادہ اور 3 سال سے کم پرانا ریکارڈ
3 سال یا اس سے زیادہ پرانا ریکارڈ

(xix) تھرڈ پارٹی کے فنڈز کی منتقلی کا تصفیہ بذریعہ RTGS (PRISM) سسٹم

مفت
مفت

متعدد کریڈٹ ٹرانسفرز۔ MT 102
ایک کریڈٹ ٹرانسفر۔ MT 103

* اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چارجز تا حکم ثانی معطل کر دیئے ہیں۔

کیش منیجمنٹ پروڈکٹس (وصولی اور ادائیگی) کے تمام چارجز کا تعین ہر کس کی نوعیت کی بنیاد پر صارف اور بینک کے مابین معاہدے کے ذریعے کیا جائے گا۔

(xx) کیش منیجمنٹ ٹرانزیکشنز بینکنگ کلیکشن /
Disbursement / الیکٹرونک بینکنگ

گزشتہ چھ ماہ کی اوسط سرمایہ کاری کی رقم کا 0.025% کم از کم -/1,500 روپے زیادہ سے زیادہ -/7,500 روپے

(xxi) انویسٹر پورٹ فولیو سیکورٹی (IPS) اکاؤنٹ ہولڈنگ چارجز
(ششماہی بنیاد پر وصول کئے جائیں گے)

I- مقامی ترسیلات زر

(i) ڈیمانڈ ڈرافٹس کی HBL بینک کی برانچوں سے ادائیگی:

-/200 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج)
0.1 فیصد، کم از کم -/500 روپے
مفت

(a) 100,000 روپے تک
(b) 100,000 روپے سے زائد
(ii) پے آرڈر کا اجراء

-/300 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج) فی پے آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹ

(iii) انسٹرومنٹ کی منسوخی کے چارجز

-/300 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج) فی انسٹرومنٹ
-/300 روپے مقررہ فی انسٹرومنٹ بشمول کوریئر چارجز
-/250 روپے مقررہ (یعنی ہر رقم پر ایک سا چارج) فی انسٹرومنٹ

(iv) اسٹاپ پیمنٹ چارجز:
(a) پے آرڈر / سی ڈی آر
(b) ڈیمانڈ ڈرافٹ (مقامی)
(v) ڈپلیکیٹ پے آرڈر کا اجراء

J- میزان کفالت

پہلی سالانہ قسط کا 5 فیصد
اصل خرچہ کے مطابق
ابتدائی سرمایہ کاری کا 5 فیصد
اصل خرچہ کے مطابق

(i) وکالہ فیس*
(ii) تکافل چارجز
(iii) کفالتی پلاز وکالہ فیس*
(iv) کفالتی پلاز تکافل فیس

* اگر پلان تین سال سے زائد مدت کے لئے جاری رہے تو وکالہ فیس معاف کی جاسکتی ہے۔



میزان بینک
پیریمینٹر اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

ADC-K (متبادل ترسیلی ذرائع) سہولیات

(i) میزان ویزا ڈیبٹ کارڈ

کلاسک کارڈ کے لئے -/3,000 روپے سالانہ
گولڈ کارڈ کے لئے -/4,200 روپے سالانہ
پلائیم کارڈ کے لئے -/9,000 روپے سالانہ
Infinite کارڈ کے لئے -/40,000 روپے سالانہ

(ii) میزان ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ

کلاسک کارڈ کے لئے -/3,000 روپے سالانہ
ٹائٹیم کارڈ کے لئے -/4,500 روپے سالانہ
پلائیم کارڈ کے لئے -/9,000 روپے سالانہ
(صرف پلائیم صارفین کے لئے، اگر مستقل طور پر درج کم کر دیا جائے)
ورلڈ کارڈ کے لئے -/25,000 روپے سالانہ
فارن کرنسی ڈیبٹ کارڈ کے لئے -/15 ڈالر سالانہ

(iii) میزان وومن فرسٹ ویزا ڈیبٹ کارڈ

جہلی باراجرا کے لئے -/500 روپے
بعد کے سالوں کے لئے -/3,000 روپے سالانہ

(iv) میزان کنڈرا اینڈ ٹیگز ویزا ڈیبٹ کارڈ

پہلے سال کے لئے مفت، بعد کے سالوں کے لئے -/1,250 روپے سالانہ

(v) میزان پے پاک ڈیبٹ کارڈ

-/2,000 روپے سالانہ

(vi) متبادل کارڈ کے حصول کے چارجز

سالانہ چارجز کے مساوی
میزان ویزا Infinite ڈیبٹ کارڈ کی تبدیلی کے کوئی چارج نہیں ہیں

(vii) سپلیمنٹری کارڈ چارجز

سالانہ چارجز کے برابر
*FCY ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے لیے اضافی کارڈ کی سہولت دستیاب نہیں ہے۔

(viii) ڈیبٹ کارڈ ڈیجیٹل ٹوکن فیس

مفت

مفت

-/23.44 روپے فی ٹرانزیکشن

-/5 روپے فی انکوائری

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4 فیصد یا -/600 روپے، جو بھی زائد ہو

نگلوئی گئی رقم کا 4 فیصد یا -/3 امریکی ڈالر، جو بھی زائد ہو

-/1 ڈالر فی انکوائری

-/300 روپے فی انکوائری

-/5 امریکی ڈالر فی ٹرانزیکشن

-/1 امریکی ڈالر فی انکوائری

-/2.50 روپے فی رسید

-/3.13 روپے فی رسید

مفت

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4%

ٹرانزیکشن کی رقم کا 3%

مقامی لین دین کے لئے -/200 روپے فی دستاویز

بین الاقوامی لین دین کے لئے -/1,000 روپے فی دستاویز

-/1,800 روپے برائے انفرادی اور رسول پرو پرائیوٹ شپ اکاؤنٹ

-/4,500 روپے برائے کمپنی اکاؤنٹ

* میزان سینئر سٹیزن اکاؤنٹ کے لئے یہ سروس مفت ہے

مفت

(ix) میزان بینک کے ای ٹی ایم سے کیش نگوانے پر
1 Link/MNET ممبر بینک کے ATM سے کیش نگوانے پر

(x) بیلنس انکوائری - 1 Link/MNET ای ٹی ایم

(xi) کیش وڈ راول - انٹرنیشنل ای ٹی ایم

(xii) کیش وڈ راول - فارن کرنسی ڈیبٹ کارڈ

(xiii) بیلنس انکوائری - فارن کرنسی ڈیبٹ کارڈ

(xiv) بیلنس انکوائری - انٹرنیشنل ای ٹی ایم

(xv) میزان بینک کے ای ٹی ایم پر انٹرنیشنل کارڈ سے کیش وڈ راول

(xvi) میزان بینک کے ای ٹی ایم پر انٹرنیشنل کارڈ سے بیلنس انکوائری

(xvii) دیگر بینکوں کے ای ٹی ایمز پر ای ٹی ایم رسید کی وصولی

(a) میزان بینک کارڈ میزان بینک کے ای ٹی ایم پر

(b) میزان بینک کارڈ ممبر بینک کے ای ٹی ایم

(xviii) مقامی خریداری

بین الاقوامی خریداری (ای کامرس، POS اور NFC)

بین الاقوامی خریداری - ایف سی وائی ڈیبٹ کارڈ

(xix) دستاویز کے دوبارہ حصول کے چارجز

(xx) مکمل SMS الرٹس سبسکرپشن

پاکستانی روپے میں اکاؤنٹ کے لئے - سالانہ چارجز

(xxi) ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پر SMS الرٹس



میزان بینک
بینک اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

(xxii) فارن کرنسی اکاؤنٹ کے لئے مکمل SMS الرٹس سبسکریپشن۔ سالانہ چارجز

انفرادی اور سول پروپرائٹرشپ اکاؤنٹ کے لئے
کارپوریٹ اور پارٹنرشپ اکاؤنٹ کے لئے

5 امریکی ڈالریا مساوی رقم
10 امریکی ڈالریا مساوی رقم

(xxiii) انٹرنیشنل فنڈ ٹرانسفر کی سہولت (IBFT)

مفت IBFT - 25,000/- روپے ماہانہ تک۔
25,000/- روپے ماہانہ سے زائد رقم پر ٹرانزیکشن کا 0.1 فیصد یا -200/- روپے، جو بھی کم ہو۔

(xxiv) بائیو میٹرک اے ٹی ایم سے رقم نکھانا/ بائیو میٹرک سیشن

(xxv) بل پے منٹ کی سہولت (انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل ایپ اور اے ٹی ایم)
(xxvi) 'Pay Anyone' سروس

15/- روپے فی سیشن
بیکن ہاؤس اسکول - 25/- روپے فی ٹرانزیکشن
100/- روپے فی ٹرانزیکشن
200/- روپے

(xxvii) ایکسپریس کارڈ کی ڈیلیوری کی فیس
پی او ایس ایکوائزنگ:

2.5% تک (گفت و شنید کی گنجائش موجود ہے)
5,000/- روپے تک (گفت و شنید کی گنجائش موجود ہے)

(xxviii) مرچنٹ ڈسکاؤنٹ چارجز
فی POS کرایہ، ماہانہ

(xxix) ای۔ کامرس ایکوائزنگ:

3% تک (گفت و شنید کی گنجائش موجود ہے)
50,000/- روپے تک (گفت و شنید کی گنجائش موجود ہے)
30,000/- روپے تک (گفت و شنید کی گنجائش موجود ہے)

مرچنٹ ڈسکاؤنٹ چارجز
ون ٹائم مرچنٹ آن بورڈنگ کی فیس
سالانہ چارجز

چھوٹ کے معیار:

1۔ میزان ڈیجیٹل اکاؤنٹس (MDA) کے لیے:

- ڈیٹ کارڈ کے اجراء پر کوئی چارج نہیں: صارف کسی بھی ایک کارڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں ویزا کلاسک، ماسٹر کارڈ کلاسک، یا پے پاک کارڈ شامل ہیں (ایک اکاؤنٹ پر ایک مفت بیک کارڈ) مفت ڈیلیوری۔
- سالانہ/تبدیلی/سلیمنٹری کارڈ چارجز موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوں گے۔

2۔ میزان روپی کرنٹ اکاؤنٹ اور آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے:

- ڈیٹ کارڈ کے اجراء پر کوئی چارج نہیں: صارف کسی بھی ایک کارڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں ویزا کلاسک، ویزا گولڈ، ماسٹر کارڈ کلاسک، یا پے پاک کارڈ شامل ہیں (ایک اکاؤنٹ پر ایک مفت بیک کارڈ)۔
- سالانہ/تبدیلی/سلیمنٹری کارڈ چارجز موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوں گے۔
- ایس ایم ایس الرٹس سبسکریپشن پر کوئی چارج نہیں (صرف پہلی بار)۔

3۔ میزان سینئر سٹیزن اکاؤنٹس کے لیے:

- ویزا گولڈ ڈیٹ کارڈ کے اجراء پر کوئی چارج نہیں: (صرف پہلے کارڈ کے لیے)۔
- سالانہ/تبدیلی/سلیمنٹری کارڈ چارجز موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوں گے۔
- باقی ڈیٹ کارڈز کے لیے چارجز موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق ہوں گے۔

- 4۔ ویزا انفیٹائیٹ ڈیٹ کارڈ صرف ان اکاؤنٹ ہولڈرز کو جاری کیا جائے گا جو ابتدائی ڈپازٹ جمع کراتے ہیں یا کم از کم 1,000,000 روپے کا اوسط ماہانہ بیلنس برقرار رکھتے ہیں۔
- 5۔ ماسٹر کارڈ ورلڈ ڈیٹ کارڈ صرف ان اکاؤنٹ ہولڈرز کو جاری کیا جائے گا جو ابتدائی ڈپازٹ جمع کراتے ہیں یا کم از کم 5,00,000 روپے کا اوسط ماہانہ بیلنس برقرار رکھتے ہیں۔

نوٹ:

- منسلک چارجز کی عدم ادائیگی/عدم وصولی کی صورت میں بینک ADC خدمات کی فراہمی روک/معطل کر سکتا ہے
- تمام چارجز میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شامل نہیں ہے



- پریمیم صارفین ایک سپلیمنٹری کارڈ بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید سپلیمنٹری کارڈز کے حصول کے لئے چارجز بینک کے شیڈول آف سروس چارجز کے مطابق ادا کرنے ہوں گے۔
 - بین الاقوامی ٹرانزیکشنز پر شرح تبادلہ یا توازنیت بینک ریٹ یا اوپن مارکیٹ ریٹ پر ہوگی، جس کا دارو مدار حالیہ طور پر نافذ ریگولیٹری ہدایات پر ہوگا۔
 - تمام بین الاقوامی چارجز کا تصفیہ امریکی ڈالر میں کیا جاتا ہے
 - اس کے علاوہ بین الاقوامی ٹرانزیکشنز پر ایڈوانس ٹیکس درج ذیل شرح سے لاگو ہوگا:
- فائلر کے لئے: 5% نان فائلر کے لئے: 10%

MEEZAN PREMIUM
BANKING

L- میزان پریمیم بینکنگ

ممبرشپ کے لئے معیار

بینک پریمیم بینکنگ کی خدمات اپنی صوابدید پر ان صارفین (بشمول کرنٹ اور سیونگز اکاؤنٹ ہولڈرز) کو فراہم کرتا ہے جو مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک سہ ماہی اوسط بیلنس برقرار رکھتے ہیں:

کھاتہ کی قسم	انفرادی اور واحد ملکیت اکاؤنٹس کے لئے معیار	شرکتہ دار اکاؤنٹس کے لئے معیار	روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ صارفین کے لئے معیار	ممبرشپ کا معیار۔ برائے تجاویز دار صارفین
چیکنگ اکاؤنٹس (بشمول کفالت)	3 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	10 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	3 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	ایسے صارفین جن کی مجموعی 750,000 روپے پر پائلز اکاؤنٹس (MPP) میں کرڈٹ کی جاتی ہے، ان کا ڈیپازٹ بیلنس جتنا بھی ہو، وہ پریمیم بینکنگ کے حصول کے اہل ہیں۔
چیکنگ اکاؤنٹس اور ڈرام ڈپازٹ سرٹیفکیٹس	5 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	10 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	5 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	
چیکنگ اکاؤنٹس، ڈرام ڈپازٹ سرٹیفکیٹس اور اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	10 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	
میزان روشن اپنا گھر (Disbursed amount)	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	8 ملین پاکستانی روپے کے مساوی یا زائد	

- * پائلز شپ اداروں کو محدود پریمیم بینکنگ خدمات کی پیشکش کے ساتھ بنیادی بینکاری خدمات پیش کی جائیں گی۔ مزید زچاں، پائلز بھی اپنے انفرادی اکاؤنٹس پر پریمیم بینکنگ کی تمام خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
- ** صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لئے۔ روشن ریزیڈنٹ صارفین پر انفرادی اور رسول پرو پرائز شپ معیار کا اطلاق ہوگا۔
- نوٹ: اہلیت کا مطلوبہ معیار برقرار رکھنے کی صورت میں پریمیم بینکنگ کی خدمات کی فراہمی معطل کی جاسکتی ہے، نتیجتاً سروس چارجز بینک کے مروجہ شیڈول آف سروس چارجز کے مطابق وصول کئے جائیں گے۔

بنیادی بینکنگ کی مفت سہولیات

(a) مفت ای ڈی سی خدمات

- 1- میزان ویزا Infinite کارڈ کے چارجز ایسے پریمیم صارفین پر لاگو نہیں ہیں جو اپنے چیکنگ اکاؤنٹس میں 15 ملین روپے کا اوسط ماہانہ بیلنس یا چیکنگ اکاؤنٹس اور ڈرام ڈپازٹ سرٹیفکیٹس میں 20 ملین روپے کا مجموعی بیلنس برقرار رکھیں گے۔
- 2- میزان ماسٹر کارڈ ورلڈ وارڈ کے چارجز ایسے پریمیم صارفین کے لئے ختم کر دیئے گئے ہیں جو اپنے چیکنگ اکاؤنٹس میں 5 ملین روپے کا اوسط ماہانہ بیلنس یا چیکنگ اکاؤنٹس اور ڈرام ڈپازٹ سرٹیفکیٹس میں 7 ملین روپے کا مجموعی بیلنس برقرار رکھیں گے۔
- 3- میزان ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے اجراء تبدیلی کی اور سالانہ فیس (ماسوائے ماسٹر کارڈ ورلڈ وارڈ ڈیبٹ کارڈ)
- 4- میزان ویزا ڈیبٹ کارڈ کے اجراء تبدیلی کی اور سالانہ فیس (ماسوائے ویزا Infinite ڈیبٹ کارڈ)
- 5- ایس ایم ایس الرٹس سروس
- 6- ایک (1) سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ کے اجراء تبدیلی اور سالانہ فیس کی چھوٹ
- 7- انٹرنیٹ بینکنگ فنڈز ٹرانسفر کی اضافی لمٹس کے ساتھ (ایسے صارفین کے لئے جو کوئی ڈیبٹ کارڈ نہیں رکھتے یا سلور / گولڈ / پلٹینم ڈیبٹ کارڈز رکھتے ہیں)

b- برانچ بینکنگ کی مفت خدمات

- 1- فارن ٹیلیگرام فاک ٹرانسفر اور فارن ڈیمانڈ ڈرافٹس کا اجراء
- 2- پے آرڈرز، ڈیمانڈ ڈرافٹس اور غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹس کی منسوخی
- 3- بینکنگ سرٹیفکیٹس مثلاً بیلنس کی تصدیق، WHT، منافع کی ادائیگی وغیرہ کے سرٹیفکیٹس کا اجراء
- 4- آؤٹ ورڈ بل فار کلیکیشن (OBC)
- 5- انٹرنیٹ کلیئرنگ
- 6- ایک ہی دن میں کلیئرنگ



c۔ پریمیم فنانسنگ فوائد (گزشٹہ 06 ماہ سے پریمیم بینکنگ کا معیار برقرار رکھنے والے صارفین کے لئے)

ایزی ہوم	کارا جارہ	میزان سول فنانسنگ (گزشٹہ 6 ماہ سے پریمیم کا معیار برقرار رکھنے والے صارفین کے لئے)
■ ریٹیل ریٹس پر 1% رعایت کے ساتھ ترجیحی قیمت ²	■ ترجیحی قیمت	■ شرح منافع پر 1% رعایت کے ساتھ ترجیحی قیمت
■ پروسیڈنگ چارجز کی چھوٹ ¹	■ پروسیڈنگ چارجز کی چھوٹ ¹	■ پروسیڈنگ چارجز کی چھوٹ
■ قبل از وقت اختتام کے منافع پر 50% چھوٹ	■ قبل از وقت اختتام کے منافع پر 100% چھوٹ	■ ایکسپریس ایپلی کیشن پر پروسیڈنگ
■ ایکسپریس ایپلی کیشن پر پروسیڈنگ	■ ایکسپریس ایپلی کیشن پر پروسیڈنگ	

¹ 06 ماہ کی شرط سے قطع نظر چھوٹ

² صرف متبادل پرائنگ ریٹ پر قابل اطلاق

نوٹ:

- دیگر تمام چارجز بینک کے موجودہ شیڈول آف سروس چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔
- اگر صارف کے بینک کے ساتھ تعلق کی ”پریمیم“ حیثیت مزید برقرار نہیں رہی تو میزان ماسٹر کارڈ پلانٹنم کارڈ پر -/750 روپے ماہانہ فیس لاگو ہوگی۔
- اگر پریمیم صارف نے میزان ماسٹر کارڈ ورلڈ کارڈ کے لئے فیس کی چھوٹ کا مقررہ معیار برقرار نہیں رکھا تو مذکورہ کارڈ پر -/2000 روپے ماہانہ فیس لاگو ہوگی۔
- اگر پریمیم صارف نے میزان ویزا Infinite کارڈ کے لئے فیس کی چھوٹ کا مقررہ معیار برقرار نہیں رکھا تو مذکورہ کارڈ پر -/3300 روپے ماہانہ فیس لاگو ہوگی۔

M۔ میزان پلس اکاؤنٹ

(i) میزان پلس اکاؤنٹ۔ ایس ایم ایس الرٹ (ایس ڈی سی۔ صرف ڈیجیٹل الرٹس)	مفت
(ii) درج ذیل ڈیٹ کارڈز کے اجراء کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے *	مفت
میزان پے پاک ڈیٹ کارڈ	مفت
میزان ویزا اسلورڈ ڈیٹ کارڈ	مفت
میزان ماسٹر کلاسک ڈیٹ کارڈ	مفت
میزان ویزا گولڈ ڈیٹ کارڈ	مفت
(iii) 200,000 روپے یا زائد * ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے والے میزان پلس اکاؤنٹ ہولڈرز درج ذیل چارجز کی چھوٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں:	
میزان پلس اکاؤنٹس ایس ایم ایس الرٹس (تمام ٹرانزیکشنز)	مفت
ڈیٹ کارڈز کی سالانہ فیس:	
میزان پے پاک ڈیٹ کارڈ	مفت
میزان ویزا اسلورڈ ڈیٹ کارڈ	مفت
میزان ماسٹر کلاسک ڈیٹ کارڈ	مفت
میزان ویزا گولڈ ڈیٹ کارڈ	مفت
انٹرنیٹ بینکنگ بذریعہ NIFT	مفت
اسٹاپ پیمنٹ کی درخواست	مفت
بیلنس کی تصدیق / اکاؤنٹ میٹنٹنس کا سرٹیفکیٹ	مفت
پے آرڈر / ریٹرن منسوختی (return cancelation)	مفت

نوٹ:

باقی تمام سروس چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔

* سالانہ فیس بینک کے شیڈول آف چارجز (SOCs) کے مطابق لاگو ہوگی، چارجز کی چھوٹ صرف ایک مرکزی ڈیٹ کارڈ کے اجراء کے لئے ہے۔

** مذکورہ بالا چارجز کے اطلاق سے قبل بینک کا سسٹم صرف گزشٹہ ماہ کا 200,000 روپے اوسط ماہانہ بیلنس چیک کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کارڈ کی سالانہ فیس مئی 2025 میں قابل اطلاق ہے تو سسٹم صرف اپریل 2025 کا ماہانہ اوسط بیلنس چیک کرے گا۔

اکاؤنٹ کھلوانے کے پہلے ماہ میں اگر ٹرانزیکشن کے وقت کسٹمر کا اکاؤنٹ بیلنس کم از کم 200,000 روپے ہوگا تو صارف کو مذکورہ بالا خدمات کے چارجز کی چھوٹ حاصل ہوگی۔



N- میزان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

- (i) اندرونی فارن ریٹینسز
(a) SWIFT کے ذریعے وصول کردہ
(b) بین الاقوامی مئی ٹرانسفر آپریشنز/ایکسیچج کمپنوں کے ذریعے RDA- پاکستانی روپے کے اکاؤنٹ میں "Free Send Model" کے تحت وصول کردہ
- (ii) بیرونی فارن ریٹینسز
(iii) ویزا ڈیبٹ کارڈ فیس
کلاسک کارڈ
گولڈ کارڈ
پلائیم کارڈ
(iv) چیک بک اجرا
(v) ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ فیس
ٹائٹیم کارڈ
(vi) ڈیپلیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
(vii) اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ
(viii) بیلنس کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ
(ix) بین الاقوامی کوریئر چارجز
(x) روشن اپنا گھر
(xi) روشن اپنی کار
(xii) قانونی دستاویزات کے چارجز
(xiii) دیگر چارجز
- مفت¹
30/- سعودی ریال (مساوی رقم پاکستانی روپے میں)
مفت¹
پہلے سال کے لئے مفت²
پہلے سال کے لئے مفت²
پہلے سال کے لئے مفت²
کرنٹ اکاؤنٹ۔ مفت
سیونگر اکاؤنٹ 20 روپے فی پرت (ماسوائے پریمیم بینکنگ کسٹمرز)
پہلے سال کے لئے مفت²
مفت
مفت
مفت
6,000/- روپے
پیٹنگی پروسیسنگ فیس - 4,000/- روپے
پروسیسنگ فیس۔ مفت
بمطابق اصل خرچہ
بمطابق اصل خرچہ

کسی بھی قسم کے دیگر قابل اطلاق چارجز، Encompassing قانونی چارجز، جانبداری کی مالیت کا تخمینہ، آمدنی کا تخمینہ، حکومتی محصولات، ٹیکسز، رہن کے چارجز بھی اصل خرچہ کے مطابق وصول کئے جائیں گے اور درخواست گزار کو ادا کرنا ہوں گے۔ ایکسٹرنل ایجنسی چارجز، استعمال نہ کرنے کی صورت میں قابل واپسی ہوں گے۔

1 اگر ریٹینسز SWIFT کے ذریعے بھیجی جارہی ہوں تو متعلقہ بینکنگ چارجز لاگو ہوں گے۔

2 پہلے سال کے لئے مفت اجرا صرف ان صارفین کے لئے ہے جنہوں نے اپنے پاکستانی روپے میں کھولے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رقم بھجوائی ہوں۔ بعد کے سالوں کے لئے ہمارے شیڈول آف چارجز (حصہ متبادل ترسیلی خدمات (ADC) کے مطابق سالانہ فیس وصول کی جائے گی۔

نوٹ: بقیہ تمام سروس چارجز شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔

O- اجارہ

- (i) گھریلو گاڑیاں۔ پیٹنگی پروسیسنگ فیس
(ii) کمرشل نیو گاڑیاں۔ (2.0 ملین روپے مالیت سے کم) پیٹنگی پروسیسنگ فیس
(iii) فلیٹ اجارہ۔ پیٹنگی پروسیسنگ فیس
(iv) کمرشل ویلک اجارہ۔ پیٹنگی پروسیسنگ فیس
(v) دستاویزات کی تیاری کے چارجز
(vi) پرانی گاڑی کی مالیت جانچنے کے چارجز
- 3,100/- روپے فی کاراجارہ کیس فرسٹ وومن فرسٹ سیگمنٹ کے لئے مفت
2,500/- روپے فی کاراجارہ کیس
8,000/- روپے فی کیس (گاڑیوں کی تعداد سے قطع نظر)
3,500/- روپے فی کیس (گاڑیوں کی تعداد سے قطع نظر)
اصل خرچہ
اصل خرچہ



میزان بینک
پہریمینٹر اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

-/500 روپے سے -/1,000 روپے۔ فاصلے پر منحصر ہے
اصل خرچہ

اصل خرچہ -/70,000 روپے تک
اصل خرچہ -/70,000 روپے تک
اصل خرچہ -/100,000 روپے تک
اصل خرچہ -/200,000 روپے تک
اصل خرچہ -/20,000 روپے تک
اصل خرچہ -/5,000 روپے تک
اصل خرچہ
اصل خرچہ
-/1,500 روپے فی کیس
-/3,000 روپے فی کیس

(vii) آؤٹ اسٹین تصدیق

(viii) آمدنی کا تخمینہ

(ix) گاڑی کے دوبارہ قبضے کے حصول کے چارجز

اندرون شہر کے چارجز

بیرون شہر کے چارجز

نان۔ کمرشل گاڑیاں

کمرشل گاڑیاں

موٹر سائیکل

قانونی نوٹس کے چارجز

نیلامی کی ایڈورٹائزمنٹ کے چارجز

دوبارہ قبضے کے حصول کے لائینڈ چارجز

(x) تیسرے فریق کو گاڑی کے ٹرانسفر کے چارجز

(xi) صارف یا تیسرے فریق کے نام پر دوبارہ اجراء / NOC کے چارجز

P- ایزی ہوم۔ اسلامک ہاؤسنگ فنانس

-/8,000 روپے

اصل خرچہ

اصل خرچہ

(i) پیسنگی پروسیجرنگ فیس

(ii) قانونی دستاویزات چارجز

(iii) دیگر چارجز*

(مثلاً) قانونی چارجز، جائیداد کے تخمینہ اور آمدنی کا تعین، جہاں ضرورت ہو)

دیگر قابل اطلاق چارجز بشمول سرکاری محصولات، ٹیکسز، رہن رکھنے کے چارجز وغیرہ اصل خرچے کے حساب سے لاگو ہوں گے اور درخواست گزار کے ذمے واجب الادا ہوں گے * ناقابل استعمال رہنے کی صورت میں بیرون ایجنسی کے چارجز قابل واپسی ہوں گے۔

Q- بلیک ٹریول آسان

پروسیجرنگ چارجز*

تقریباً -/2,000 روپے (بشمول بینک کی اندرونی تصدیق، تکافل کوریج اور قانونی دستاویزات)

نوٹ: چارجز اصل خرچے کے مطابق وصول کئے جائیں گے اور یقیناً رقم (اگر کوئی ہو) واپس کر دی جائے گی۔

R- میزان کنزیومرايز

-/1,800 روپے

-/5,000 روپے

-/100 روپے

بمطابق اصل خرچہ

بمطابق اصل خرچہ

(i) پروسیجرنگ فیس۔ کنزیومرايز

(ii) پروسیجرنگ فیس۔ میزان سولر (رہائشی)

(iii) پروسیجرنگ فیس۔ کامیاب جوان پروگرام (Tier 1)

(iv) دستاویزات کے چارجز

(v) دیگر چارجز*

(مثلاً) قانونی چارجز، آمدنی کے تخمینہ کے چارجز، طویل فاصلہ کی بیرونی تصدیق کے چارجز، بیوروچیک فیس اور دیگر کوئی متعلقہ چارجز، جہاں قابل اطلاق ہوں۔

S- میزان اپنی بانیک

-/1,800 روپے (+ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی)

بمطابق اصل خرچہ

بمطابق اصل خرچہ

(i) پروسیجرنگ فیس۔ میزان اپنی بانیک

(ii) دستاویزات کے چارجز

(iii) دیگر چارجز*

* مثلاً قانونی چارجز، آمدنی کے تخمینہ کے چارجز، طویل فاصلہ کی بیرونی تصدیق کے چارجز، بیوروچیک فیس اور دیگر متعلقہ چارجز، جہاں قابل اطلاق ہوں



میزان بینک
بهریمینسٹر اسلامی بینک

جدول برائے بینک سروس چارجز۔ جولائی تا دسمبر، 2025

T- کارپوریٹ ریٹینشن

7,500/- روپے (مقررہ رقم) فی کیس

(i) پرائیویٹ سیکٹر قرضہ معاہدہ (PSBA) کی رجسٹریشن کے لیے بینڈلنگ چارجز
(پاکستان میں قرض حاصل کنندگان کی جانب سے غیر ملکی قرض فراہم کنندگان سے حاصل کردہ)

3,000/- روپے (مقررہ رقم) فی کیس

(ii) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایچ بی پی پالیسی ڈیپارٹمنٹ میں شیئرز کی رجسٹریشن کے لیے بینڈلنگ چارجز
(غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری (FDI) سے متعلق)

3,000/- روپے (مقررہ رقم) فی کیس

(iii) اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں درخواست گزار کی جانب سے بینک کی تقرری کے لیے بینڈلنگ چارجز
(منافع، آئی ٹی و ڈیجیٹل خدمات، ہیڈ آفس اخراجات، رہائشیوں کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور RFT معاہدہ رجسٹریشن سے متعلق معاملات)

2,000/- روپے فی کیس

(iv) کارپوریٹ ریٹینشن معاملات کے لیے بینڈلنگ چارجز
(جنہیں SBP کی منظوری درکار ہو)

2,500/- روپے فی کیس

(v) FTT اور SWIFT چارجز کے علاوہ بینڈلنگ چارجز
(قرضہ، منافع، رائلٹی، سرمایہ نکالنے پر حاصل شدہ رقوم، غیر ملکی سرمایہ کاری، ہیڈ آفس اخراجات، آپریٹنگ کمپنی اور ہولڈنگ کمپنی کے انکارپوریشن اخراجات سے متعلق معاملات)

نوٹ: گروپ ہیڈ TIBG کی منظوری سے معاملہ بہ معاملہ بنیاد پر چارجز میں کمی یا معافی دی جاسکتی ہے۔

U- صارف سے رابطے کے محصولات

(i) کوریئر چارجز

اندرون شہر

اندرون ملک

بیرون ملک

(ii) بیرون ملک رجسٹرڈ پوسٹ

(iii) پاکستان میں رجسٹرڈ پوسٹ

(iv) عام میل

غیر ملکی

مقامی

(v) فیکس چارجز

(vi) SWIFT چارجز

غیر ملکی SWIFT چارجز

50/- روپے (فی آئٹم)

100/- روپے (فی آئٹم)

اصل خرچہ، کم از کم -/3,500 روپے (فی 500 گرام)

150/- روپے فی 50 گرام

ہر اگلے 50 گرام (یا اس کا کچھ حصہ) پر اضافی -/50 روپے

35/- روپے فی 50 گرام یا اس کا کچھ حصہ

ہر اگلے 50 گرام (یا اس کا کچھ حصہ) پر اضافی -/25 روپے

100/- روپے فی 50 گرام یا اس کا کچھ حصہ

25/- روپے فی 50 گرام یا اس کا کچھ حصہ

100/- روپے فی صفحہ (اندرون ملک)

200/- روپے فی صفحہ (بیرون ملک)

600/- روپے



V- کیپٹل مارکیٹ

(i) میزان کسٹومائزڈ سروسز MCS

(a) اکاؤنٹ اوپننگ

(b) اکاؤنٹ مینٹیننس

(c) فزیکل حصص کا ڈپازٹ

(d) ٹرانزیکشن چارجز

(e) NCCPL/CDC چارجز

(ii) ای ڈیویڈنڈ کی وصولی کے چارجز

(iii) شریعت سے ہم آہنگ حصص/مضاربہ سرٹیفکیٹ کی عوام الناس کو پیشکش/فروخت کے لیے پیش کردہ حصص

(iv) رائٹ حصص (قیمت ظاہری) کا اجراء

1,000/- روپے (ایک مرتبہ)

1,000/- روپے (سالانہ)

0.05 روپے فی حصص مع CDC چارجز/ٹیکس بمطابق اصل

حصص کی مارکیٹ ویلیو کا 0.1 فیصد

اصل خرچہ

50/- روپے فی ٹرانزیکشن یا 50,000/- روپے جو بھی زائد ہو۔

(MBL کی صوابدید پر ریٹس پر گفٹ و شنید سے مشروط ہے)

0.5 فیصد کمیشن بشمول دیگر اخراجات یا کم از کم 50,000 روپے جو رقم بھی زیادہ ہو،

(وسعت کاروبار کی بنیاد پر شرح گفٹ و شنید کے مطابق اور میزان بینک لمیٹڈ کی

صوابدید پر منحصر)

0.5 فیصد کمیشن بشمول دیگر اخراجات، کم از کم 50,000 روپے

(وسعت کاروبار کی بنیاد پر شرح گفٹ و شنید کے مطابق اور میزان بینک لمیٹڈ کی صوابدید پر منحصر)

W- میزان اسمارٹ

(i) میزان اسمارٹ پے پاک کارڈ

(ii) پے پاک کارڈ کی تبدیلی کے چارجز

(iii) اسمارٹ پے رول سولیوشن

(iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر (IBFT) کی سہولت

(v) پاکستان کے دیگر بینکوں کے ATMs پر بینکس انکوائری

(vi) میزان بینک اور M NET/1LINK ممبر بینکوں

کے ATMs سے رقم نکلوانے کی صورت میں

(vii) بل پیمنٹ سروس (انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل ایپ اور ATM)

(viii) بائیومیٹرک کیش وڈ رال

(ix) پیمنٹ ڈسبرسمنٹ

(x) پیمنٹ کلکیشنز

500/- روپے سالانہ

250/- روپے

500/- روپے سالانہ یا اس کا کچھ حصہ جو صارف کے ساتھ

گفٹ و شنید سے مشروط ہے۔

ADC سہولیات کے حصہ میں بیان کردہ چارجز کے مطابق

ADC سہولیات کے حصہ میں بیان کردہ چارجز کے مطابق

ADC سہولیات کے حصہ میں بیان کردہ چارجز کے مطابق

ADC سہولیات کے سیکشن میں بیان کئے گئے چارجز کے مطابق

10 روپے مع قابل اطلاق ٹیکسز

چارجز کیس کی نوعیت کی بنیاد پر طے کئے جائیں گے

چارجز کیس کی نوعیت کی بنیاد پر طے کئے جائیں گے

X- دیگر زائد اخراجات

صارف کے ساتھ معاہدے کے تحت وہ چارجز جو اس شیڈول میں شامل نہیں ہیں کیس کی نوعیت کے مطابق علیحدہ سے وصول کئے جائیں گے۔

Y- نئی خدمات کا تعارف

کسی نئی سہولت کے اجراء کی صورت میں، جس کے لئے بینک اس جدول کی مدت کے دوران فیس وصول کرتا ہے اسے اگلے جدول برائے سروس چارجز میں علیحدہ سے بیان کیا جائے گا۔



Z-اہم نکات

- (i) اوپر بیان کردہ چارجز کے ساتھ ساتھ وہ ہولڈنگ ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، اسٹیمپ ڈیوٹی، پرونشل فیڈرل ٹیکس یا کوئی بھی حکومتی ٹیکس جس کا اعلان وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے، صارفین کے کھاتے کے لئے ہیں اور جہاں قابل اطلاق ہوں، مذکورہ بالا ریٹس کے ساتھ چارج کئے جائیں گے۔
- (ii) کیس کی نوعیت کے مطابق، بزنس ہیڈ یا ڈپٹی سی ای او کی منظوری سے چارجز میں کمی یا چھوٹ دی جاسکتی ہے، تاہم کارپوریٹ ریٹینینسز کے لیے استثناء موجود ہے جہاں گروپ ہیڈ TIBG مخصوص کیسز میں کمی یا چھوٹ دی جاسکتی ہے۔